

43087 - کیا اسلام تلوار کے ساتھ پھیلا ہے ؟

سوال

کیا اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

سوال نمبر (34830) کے جواب میں بیان کیا جا چکا ہے کہ جہاد کی دو قسمیں ہیں: ہجومی اور دفاعی.

اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام پھیلانے میں ہجومی جہاد کا بہت زیادہ دخل اور اثر ہے، اور گروہ در گروہ لوگوں کا اسلام میں داخل ہونے میں بھی اسی کا اثر تھا.

اسی لیے دشمنان اسلام کے دلوں میں جہاد کا رعب اور دبدبہ بھرا ہوا ہے.

انگریزی زبان کا انٹرنیشنل اسلامی میگزین میں مضمون آیا ہے کہ:

یورپی دنیا پر کچھ نہ کچھ خوف طاری رہنا ضروری ہے، اور اس خوف کے کئی ایک اسباب ہیں، جن میں یہ سبب بھی ہے کہ جب سے اسلام مکہ مکرمہ میں ظاہر ہوا اس وقت سے اس کی افرادی قوت بڑھ رہی، بلکہ ہمیشہ ہی افرادی قوت زیادہ ہو رہے اور پھیل رہے ہیں، پھر اسلام صرف دین ہی نہیں بلکہ اس کے ارکان میں جہاد جیسی اشیاء بھی شامل ہیں. اھ

اور رابرٹ پین کہتا ہے:

یقیناً اس سے قبل بھی مسلمانوں نے پوری دنیا میں جنگیں لڑی ہیں اور وہ ایک بار پھر ایسا کریں گے. اھ

مستشرقین نے اسلام میں طعن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا.

مستشرق ٹومس ارنالڈ نے " اسلام کی دعوت " نامی ایک کتاب لکھی ہے جس کا مقصد مسلمانوں میں جہادی روح ختم کرنا اور مٹانا تھا، اس میں اس نے اپنے خیال کے مطابق یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، بلکہ دعوت و تبلیغ کے ذریعہ سے پھیلا ہے جو ہر قسم کی قوت سے خالی اور بری اور سلیم تھی.

مسلمان بھی اس پھیلائے ہوئے جال میں پھنس گئے ہیں، لہذا جب وہ کسی مستشرق کی جانب سے کسی کو اسلام پر حملہ کرتے ہوئے سنتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ تم اپنی نسل کے آدمی کی بات سنو جو اس کا رد کرتے ہوئے اس طرح کہتا ہے، اور اس نے یہ کچھ کہا ہے۔

مسلمانوں میں سے کچھ شکست خوردہ ذہنیت کے مالک لوگ نکلے تو اسلام کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے خیال میں انہوں نے دین اسلام کو اس بہتان سے بری کرنے کی کوشش کی، اور اس طرح انہوں نے اسلام تلوار سے پھیلنے کی نفی کرنا شروع کر دی، اور اس کے نتیجہ میں انہوں نے اسلام میں جہاد کی مشروعیت کی نفی کر دی، صرف دفاعی جہاد کرنا جائز قرار دیا، لیکن ان کے ہاں ہجومی جہاد یعنی کافر پر ان کے ملک میں جا کر حملہ کرنے کا وجود ہی نہیں ملتا، یہ قرآن و سنت کے مخالف تو ہے ہی لیکن مسلمان آئمہ کرام کے فیصلوں کے بھی خلاف ہے۔

شیخ الاسلام مجموع الفتاوی میں کہتے ہیں:

" مقصد یہ ہے کہ سارے کا سارا دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہی بلند ہو، اور " کلمۃ اللہ " اللہ تعالیٰ کا کلمہ " ان سب کلمات کو متضمن ہے جو کتاب یعنی قرآن میں ہیں۔

اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل فرمایا تا کہ لوگ عدل و انصاف پر قائم رہیں۔ الحدید (25)

لہذا رسولوں کو بھیجنے اور کتابیں نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے حقوق میں عدل و انصاف قائم رکھیں۔

پھر اسی آیت میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت و قوت ہے، اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی بے دیکھے مدد کون کرتا ہے الحدید (25)۔

لہذا جس نے بھی کتاب اللہ تعالیٰ انحراف کیا اسے لوہے (اسلحہ) کے ساتھ سیدھا کیا جائے گا، اور اسی لیے دین کی درستگی قرآن اور تلوار کے ساتھ ہوتی رہی ۔

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جو کوئی بھی اس مصحف و قرآن سے انحراف کرے اسے تلوار کے ساتھ مارو۔ اھ

دیکھیں: مجموع الفتاوی لابن تیمیة (28 / 263).

اور ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب " الفروسية " میں کہتے ہیں:

اور اللہ تعالیٰ نے اسے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت سے قبل کتاب اور ہدایت اور مدد والی تلوار کے ساتھ مبعوث کیا تا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزی ان کی تلوار اور نیزے کے نیچے رکھی.... کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین اسلام کو دلیل و برہان اور حجت اور تلوار و نیزے کے ساتھ قائم کیا ہے، اور یہ دونوں اشیاء مدد کرنے میں سگھے بھائی کی حیثیت رکھتی ہیں. اھ

دیکھیں: الفروسية (18).

ذیل میں ہم کتاب و سنت میں سے چند ایک دلائل پیش کرتے ہیں جو اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ اسلام کے پھیلنے میں تلوار نے اہم کردار ادا کیا، اور اسلام کے پھیلنے کے اسباب میں ایک اہم سبب تلوار بھی ہے:

1 - فرمان باری تعالیٰ ہے:

اور اگر اللہ تعالیٰ آپس میں لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے اور گرجے اور مسجدیں اور یہودیوں کے معبد اور وہ مسجدیں بھی منہدم کردی جاتیں جہاں اللہ تعالیٰ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کرے گا اللہ تعالیٰ بھی ضرور اس کی مدد و نصرت کرے گا، بیشک اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا بڑے غلبے والا ہے الحج (40).

اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر فضل و کرم کرنے والا ہے البقرة (251).

2 - اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفار کے خلاف جہاد کرنے اور انہیں دہشت زدہ کرنے کے لیے تیاری کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا:

تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو، اور گھوڑوں کے تیار رکھنے کی کہ تم اس سے اللہ تعالیٰ اور اپنے دشمنوں کو خوفزدہ رکھ سکو، اور ان کے علاوہ دوسروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے الانفال (60).

اگر اسلام صرف دعوت و تبلیغ سے ہی پھیلا ہوتا تو پھر کفار کس چیز سے ڈرتے پھرتے ہیں؟ کیا ایسی کلام اور بات

سے جو صرف زبان سے نکلتی ہے؟

صحیحین میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" میری ایک ماہ کی مسافت پر رعب کے ساتھ مدد کی گئی ہے "

کیا کفار صرف اتنی بات سے ہی رعب کھانے لگتے ہیں کہ انہیں یہ کہا جائے کہ اسلام قبول کرلو، اور اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو تم اپنے عقیدے اور اعمال میں آزاد ہو جو چاہے کرتے پھرو اور جو چاہو عقیدہ رکھو۔ ؟

یا کہ وہ جہاد و قتال اور ان پر جزیہ اور ذلت مسلط ہونے سے خوفزدہ ہیں اور دہشت کھا رہے ہیں؟ جو انہیں اس ذلت اور رسوائی سے بچانے کے لیے اسلام قبول کرنے پر ابھارتا ہے۔

3 - اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو ایسی دعوت دیتے تھے جو تلوار کے ساتھ ملی ہوتی، اور اپنے کمانڈروں کو بھی یہی حکم جاری کرتے، ہو سکتا ہے کہ جب لوگ مسلمانوں کی اپنے دین کی دعوت دینے میں قوت و طاقت اور جدوجہد دیکھیں تو ان سے پردے علیحدہ ہو جائیں۔

بخاری اور مسلم نے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا:

" میں صبح جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اس کے ہاتھ پر فتح نصیب ہوگی، تو لوگوں وہ رات یہ سوچتے ہوئے بسر کی کہ جھنڈا کسے دیا جائے گا، اور صبح ہر کوئی شخص اس جھنڈے کی امید لگائے ہوئے تھا۔

تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی ان کی آنکھوں میں درد ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں تھوک لگایا اور دعا کی تو آنکھیں صحیح ہو گئیں، ایسے کہ کبھی ان میں درد ہوا ہی نہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا تو وہ کہنے لگے:

میں ان سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہیں ہو جاتے؟

تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" تم اطمینان اور آسانی سے جاؤ حتیٰ کہ جب تم ان کے علاقے میں پہنچو تو انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دو، اور

ان پر جو کچھ واجبات ہیں اس کی انہیں خبر دو، اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے ذریعہ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دی تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی اور بہتر ہے" د

صحیح بخاری حدیث نمبر (3009) صحیح مسلم حدیث نمبر (2406)

تو یہ دعوت الی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلحہ کی قوت سے ساتھ ملی ہوئی ہے اس کے بغیر مکمل نہیں۔

مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر اور پارٹی کا امیر مقرر کرتے تو اسے اور اس کے ساتھ مسلمانوں کو بھلائی کی نصیحت کرتے اور پھر فرماتے:

" اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کرو، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں کے ساتھ قتال کرو، غزوہ کرو اور خیانت مت کرو، اور دھوکہ نہ دو، اور مثلہ نہ کرو، اور نہ ہی بچے کو قتل کرو، اور جب تم اپنے دشمن مشرکوں کو ملو تو انہیں تین باتوں کی دعوت دو، اس میں جو بھی وہ مان لیں تو وہ ان سے قبول کرو، اور ان سے رک جاؤ، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اگر تو وہ آپ کی بات تسلیم کر لیں تو قبول کرتے ہوئے رک جاؤ... اور اگر وہ انکار کر دیں تو پھر ان سے جزیہ دینے کا مطالبہ کرو، اگر وہ مان لیں تو قبول کرتے ہوئے ان سے رک جاؤ، اور اگر انکار کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور ان سے لڑائی اور جنگ کرو.... الحدیث .

صحیح مسلم حدیث نمبر (3261) .

یہ دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امراء اور کمانڈروں کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ کفار کو اسلام کی دعوت دیں تو انہوں نے کفار کے سر پر تلوار لٹکا کر رکھی ہو، اور اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں تو ذلیل ہو کر جزیہ دینے پر راضی ہوں، اور اگر وہ اس کا بھی انکار کرتے ہیں تو پھر سوائے تلوار کے اور کچھ نہیں۔

کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" اگر وہ اس کا بھی انکار کر دیں تو پھر اللہ کی مدد طلب کرتے ہوئے ان سے قتال اور لڑائی کریں"

4 - اور ایک دوسری حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

" میں قیامت سے قبل تلوار دے کر مبعوث کیا گیا ہوں حتیٰ کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہونے لگے، اور میرا رزق میرے نیزے کے نیچے رکھا گیا ہے، اور جو شخص بھی میری مخالفت کرتا ہے اس پر ذلت و رسوائی مسلط کر دی گئی ہے، اور جو بھی کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان میں سے ہی ہے"

مسند احمد حدیث نمبر (4869) صحیح الجامع حدیث نمبر (2831)

اسلام کے پھیلنے کے اسباب میں تلوار اور قوت کا سبب بننا اسلام کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں، بلکہ یہ تو اسلام کی خصوصیات اور محاسن میں شامل ہوتا ہے کہ وہ لوگوں پر ایسی چیز لازم کر رہا ہے جس میں ان کی دنیا و آخرت دونوں کا فائدہ ہے۔

اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن پر حماقت اور قلت حکمت و علم غالب ہوتی ہے، اگر ایسے لوگوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ حق سے اندھے ہو جائیں، اور شہوات میں ڈوب جائیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو حق کی طرف پلٹانے اور جس میں ان کا فائدہ ہے اسے حاصل کرنے کے لیے جہاد مشروع کیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ حکمت کا تقاضہ یہی ہے کہ احمق اور بے وقوف شخص کو نقصان اور ضرر دینے والی چیز سے بچایا جائے، اور اسے ایسے کام پر ابھارا جائے جس میں اس کا نفع اور فائدہ ہو۔

بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابو پریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا وہ کہتے ہیں:

تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔

وہ کہتے ہیں: لوگوں کے لیے سب سے بہتر اور اچھے لوگ، (یعنی لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ دینے والے لوگ ہو) تم ان کی گردنوں میں زنجریں ڈال کر لاؤ گے حتیٰ کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، تو کیا جہاد کے علاوہ بھی کسی لوگوں کو زنجیروں میں لایا جاسکتا ہے؟ !

اس میں اسلام کی مدح اور تعریف ہے نہ کہ قابل مذمت، لہذا ان شکست خوردہ ذہنوں کے مالک لوگوں کو چاہیے کہ (وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اختیار کریں اور اس دین کو مسخ کر کے پیش کرنے سے باز رہیں، اور یہ دلیل دے کر کہ دین اسلام امن و سلامتی والا دین ہے اسے کمزور اور اس کی بنیادیں کھوکھلی نہ کریں۔

جی ہاں یہ امن و سلامتی کا دین ہے، لیکن اس اساس پر کہ ساری بشریت کو غیر اللہ کی عبادت سے بچایا جائے، اور ساری بشریت کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت اور تابع فرمان بنایا جائے، کیونکہ یہ طریقہ اور منہج تو اللہ تعالیٰ کا ہے، نہ کہ بندوں میں سے کسی بندے اور غلام کا قانون اور طریقہ نہیں، اور نہ ہی ایسا مذہب ہے جو کسی انسان اور مفکر کی اختراع ہو، حتیٰ کہ اس کی دعوت دینے یہ اعلان کرنے سے شرم محسوس کرتے ہوں کہ ان کا آخری ہدف یہ ہے کہ سارے کا سارا دین اللہ تعالیٰ کا ہی ہو کر رہ جائے۔

جب وہ مذاہب جس کے لوگ تابع ہیں وہ بشری مذہب ہوں اور کسی بندے کی اختراع اور ایجاد ہوں اور جب قوانین اور نظام جو ان کی زندگی کو چلاتے ہوں وہ بھی کسی بندے کی اختراع اور ایجاد ہوں تو اس حالت میں ہر مذہب اور ہر قانون اور نظام کو حق حاصل ہے کہ اپنی حدود کے اندر امن کے ساتھ قائم رہے جب تک کہ وہ کسی دوسرے کی

حدود سے تجاوز نہیں کرتا، اور اس مذہب اور نظام اور مختلف حالات کو حق ہے کہ زندہ رہیں، اور کسی دوسرے کو مٹانے اور زائل کرنے کی کوشش نہ کریں۔

اور جب وہاں منہج الہی اور ربانی شریعت موجود ہو اور اس کے مقابلے میں دوسرے مذاہب جو انسانی اور بشری اختراع ہیں پائے جائیں تو بنیادی طور پر ہی معاملہ مختلف ہو جاتا ہے، اور الہی منہج کو حق ملتا ہے کہ وہ بشری حدود اور پردوں کو پھلانگ کر لوگوں کو بندوں کی عبادت سے باہر نکالے...

دیکھیں: فقہ الدعوة / سید قطب (217 - 222) کچھ کمی و بیشی کے ساتھ۔

اور مستقل فتویٰ کمیٹی کے فتاویٰ جات میں ہے:

" اس شخص کی بنسبت جو دعوت کو سنتا اور اسے قبول کرتا ہے اسلام حجت و دلیل اور بیان کے ساتھ پھیلا، اور جو شخص اسلام کی مخالفت اور اس کے ساتھ معاندانہ اور متکبرانہ رویہ اختیار کرتا ہے، اس کی بنسبت اسلام قوت و تلوار کے ساتھ پھیلا حتیٰ کہ یہ اس کے معاملہ پر غالب آگیا، تو اس کا عناد اور دشمنی جاتی رہی اور اس نے اس واقع کی بنا پر اسلام قبول کر لیا" اھ

دیکھیں: فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء (12 / 14) .

والله اعلم .